



سوال

(72) خطبہ کے دوران آپ ﷺ پر درود بھیجنا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

خطبہ جمعہ یا وعظ میں آپ ﷺ کا سنات کا نام نامی اسم گرامی سن کر درود بھیجتے ہیں۔ اور درمیان اذان کے بھی جواب کے ساتھ درود پڑھتے ہیں۔ آیا از روئے شریعت یہ امور جائز ہیں۔ یا نہیں؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

حدیث شریف میں آیا ہے۔ ”جب میرا نام (محرر رسول اللہ ﷺ) سنو تو درود پڑھو۔“ اس حدیث پر تعمیل کرنے کو درود پڑھیں تو جائز بلکہ کار ثواب ہے۔

شرفیہ

رسول اللہ ﷺ کے نام نامی و اسم گرامی کا جب ذکر ہو تو درود شریف پڑھنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخم انف رجل ذکرک عندہ فلم یصل علی (الحديث) (خرجه الترمذی وقال حسن غریب کذا فی تنقیح الرواة ص 170 ج 1)

مقصود ان روایات کا یہ ہے کہ آپ کے نام نامی کو سن کر آپ ﷺ پر درود پڑھنا بہت ہی ضروری ہے۔ جو اس میں کوتاہی کرے۔ وہ بخیلوں کا بخیل ہے۔ درود شریف بہتر وہی ہے۔ جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ مختصر پڑھنا ہو تو ﷺ ہی پڑھ لیا جائے۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

[فتاویٰ شنائیہ امرتسری](#)



جلد 01 ص 221

محدث فتویٰ